

سندھ آرڈیننس نمبر VII مجریہ ۱۹۷۳

SINDH ORDINANCE NO.VII OF 1973

سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی بقایاجات کی وصولی
آرڈیننس، ۱۹۷۳

THE SINDH INDUSTRIAL TRADING ESTATE RECOVERY OF DUES ORDINANCE, 1973

فہرست (CONTENTS)

تمہید (Preamble)

دفعات (Sections)

۱۔ مختصر عنوان، اضافہ اور شروعات

Short title, extend and commencement

۲۔ تعریف

Definitions

۳۔ بقایاجات کا اعلان

Declaration of dues

۴۔ قواعد بنانے کا اختیار

Power to make rules

سندھ آرڈیننس نمبر VII مجریہ ۱۹۷۳

SINDH ORDINANCE NO.VII OF

1973

سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی
بقایاجات کی وصولی آرڈیننس، ۱۹۷۳
**THE SINDH INDUSTRIAL
TRADING ESTATE RECOVERY OF
DUES ORDINANCE, 1973**

[۱۲ مئی ۱۹۷۳]

آرڈیننس جس کے ذریعے سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی بقایاجات کی وصولی کی جائے گی۔
جیسا کہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی بقایاجات کی وصولی کرنا مقصود ہے؛

تمہید (Preamble)

اور جیسا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری نہیں ہے اور سندھ کا گورنر مطمئن ہے کہ موجودہ حالات میں ہنگامی قدم اٹھانا ضروری ہے؛

مختصر عنوان،
اضافہ اور شروعات

Short title,
extend and
commencement

تعریف

Definitions

اب، اس لیئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عبوری آئین کے آرٹیکل ۱۳۵ کی شق (۱) کے تحت ملے ہوئے اختیارات کو استعمال میں لاتے ہوئے، سندھ کے گورنر نے مندرجہ ذیل آرڈیننس بنا کر نافذ کرنا فرمایا ہے:

۱۔ اس آرڈیننس کو سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی بقایاجات کی وصولی آرڈیننس، ۱۹۷۳ کہا جائے گا۔
(۲) اس کی پورے صوبہ سندھ تک توثیق کی جائے گی۔

(۳) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

۲۔ اس آرڈیننس میں جب تک کچھ مفہوم کے متضاد نہ ہو مندرجہ ذیل اظہارات کی معنی ترتیبوار مندرجہ ذیل ہوں گی:

(a) "ڈفالٹر" سے مراد وہ شخص جس پر سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی واجب الادا بقایاجات ہیں اور جس میں شامل ہے وہ شخص جو ایسی کن بقایاجات کی ادائیگی کا ضامن ہو؛

بقایاجات کا اعلان

(b) "حکومت" سے مراد سندھ حکومت؛ اور

Declaration of
dues

قواعد بنانے کا اختیار
Power to make
rules

(c) "سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ" سے مراد تاریخ ۲ جون ۱۹۳۷ء پر سندھ حکومت کی قرارداد نمبر 24-I.B/47-1 کے تحت قائم کردہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کمپنی۔

۳۔ (۱) حکومت نوٹیفیکیشن کے ذریعے اعلان کر سکتی ہے کہ سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کی طرف سے واجب الادا بقایاجات یا بقایاجات کی کوئی قسم ڈفالٹرز سے لینڈ روینیو کی بقایاجات کے طور پر واجب الادا ہوگا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نوٹیفیکیشن شایع ہونے کے بعد ایسی کوئی بھی بقایاجات روینیو رگوری ایکٹ، ۱۸۹۰ (۱۸۹۰ کا ایکٹ I) کے تحت لینڈ روینیو کی بقایاجات کی طور پر واجب الادا ہوں گی۔

۳۔ حکومت اس آرڈیننس کی گنجائشوں کو موثر بنانے کے لیئے قواعد بنا سکتی ہے۔

نوٹ: آرڈیننس کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔